

Time: 10 Minutes	Paper Math 7 (T-1)	Total Marks: 10
5th Month, 2nd Week, 5th Day	Exercise 4.4 Q # (4,5,6)	


☆ Answer the following questions: درج ذیل سوالات کے جواب دیں۔

Q.1. Find number of sides (n) of regular polygon with given an exterior angle. (2.5x2=5)

ایک باقاعدہ کثیر اضلاع کے اضلاع کی تعداد (n) معلوم کریں جس کے بیرونی زاویے دیے گئے ہیں۔

- (i)  $25\frac{5}{7}^{\circ}$  (ii)  $24^{\circ}$

Q.2. The figure ABCDEF is a regular hexagon. (1x5=5)



شکل ABCDEF ایک منظم مسدس ہے۔

- (i) Find the value of x and y.  
(ii) Find the value of s and t.

Time: 10 Minutes	Paper Math 7 (T-1)	Total Marks: 10
5th Month, 2nd Week, 5th Day	Exercise 4.4 Q # (4,5,6)	


☆ Answer the following questions: درج ذیل سوالات کے جواب دیں۔

Q.1. Find number of sides (n) of regular polygon with given an exterior angle. (2.5x2=5)

ایک باقاعدہ کثیر اضلاع کے اضلاع کی تعداد (n) معلوم کریں جس کے بیرونی زاویے دیے گئے ہیں۔

- (i)  $25\frac{5}{7}^{\circ}$  (ii)  $24^{\circ}$

Q.2. The figure ABCDEF is a regular hexagon. (1x5=5)



شکل ABCDEF ایک منظم مسدس ہے۔

- (i) Find the value of x and y.  
(ii) Find the value of s and t.

Time: 10 Minutes	Paper Math 7 (T-1)	Total Marks: 10
5th Month, 2nd Week, 5th Day	Exercise 4.4 Q # (4,5,6)	


☆ Answer the following questions: درج ذیل سوالات کے جواب دیں۔

Q.1. Find number of sides (n) of regular polygon with given an exterior angle. (2.5x2=5)

ایک باقاعدہ کثیر اضلاع کے اضلاع کی تعداد (n) معلوم کریں جس کے بیرونی زاویے دیے گئے ہیں۔

- (i)  $25\frac{5}{7}^{\circ}$  (ii)  $24^{\circ}$

Q.2. The figure ABCDEF is a regular hexagon. (1x5=5)



شکل ABCDEF ایک منظم مسدس ہے۔

- (i) Find the value of x and y.  
(ii) Find the value of s and t.

Time: 10 Minutes	Paper Math 7 (T-1)	Total Marks: 10
5th Month, 2nd Week, 5th Day	Exercise 4.4 Q # (4,5,6)	


☆ Answer the following questions: درج ذیل سوالات کے جواب دیں۔

Q.1. Find number of sides (n) of regular polygon with given an exterior angle. (2.5x2=5)

ایک باقاعدہ کثیر اضلاع کے اضلاع کی تعداد (n) معلوم کریں جس کے بیرونی زاویے دیے گئے ہیں۔

- (i)  $25\frac{5}{7}^{\circ}$  (ii)  $24^{\circ}$

Q.2. The figure ABCDEF is a regular hexagon. (1x5=5)



شکل ABCDEF ایک منظم مسدس ہے۔

- (i) Find the value of x and y.  
(ii) Find the value of s and t.